

سوال

ماء زمزم کی کیا قدر و منزلت اور فضیلت ہے اور مسلمان زمزم پراتنے حریص کیوں ہیں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے ، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے جو کہ جبریل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے ۔

صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں پیچھے چالیس دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا اس وقت فرمایا :

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کب سے یہاں مقیم ہو ؟ تو ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا تیس دن رات سے یہیں مقیم ہوں ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے :

تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا ؟ وہ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کس بل نکل گئے ، اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے : بلاشبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے (صحیح مسلم حدیث نمبر (2473) ۔

اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ (یہ بیماری کی شفا ہے) مسند البزار حدیث نمبر (1171) اور (1172) اور معجم طبرانی الصغیر حدیث نمبر (295) ۔

سنن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(زمزم جس چیز کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے) سنن ابن ماجہ کتاب المناسک حدیث نمبر (3062) ۔

علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے اے اللہ مجھے ابن ابی الموالی نے محمد بن منکدر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے ، اور میں روزقیات کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں - اھ ابن ابوالموالی ثقہ ہے تو اس طرح حدیث حسن درجہ کی ہے -

ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے اور الحمد للہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں -

اور میں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کئی ایک نے زمزم کو پندرہ یوم سے بھی زیادہ تک بطور غذا استعمال کیا تو اسے بالکل بھوک محسوس تک نہیں ہوئی اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر طواف کرتا رہا ، اور اس مجھے بتایا کہ ہوسکتا ہے کہ چالیس یوم تک اسی کو بطور غذا استعمال کیا اور پھر ان میں روزہ بھی رکھا اور بیوی سے جماع کرنے کی قوت بھی تھی اور کئی ایک بار طواف بھی کیا - اھ دیکھیں زاد المعاد (4 / 319 - 320) -

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں :

لہذا زمزم پینے والے کو چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کے پیئے حتیٰ کہ اس کی کوکھیں باہر نکل آئیں اور اسے پینے وقت وہ نیت کرنی چاہئے جو وہ چاہتا ہے اس لیے کہ زمزم میں خیر و برکت ہے اور اس کے بارہ میں ایک حدیث وارد ہے :

(اہل ایمان اور اہل نفاق کی علامت یہ ہے کہ (مومن) پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے) سنن ابن ماجہ کتاب المناسک حدیث نمبر (1017) مستدرک الحاکم (1 / 472) ، اس کی سند صحیح اور رجال ثقہ ہیں -

اور اس لیے کہ زمزم میٹھا نہیں بلکہ اس میں کچھ کھارا پن ہے ، تو مومن انسان اس کھارا پن کی طرف مائل پانی کو صرف اپنے ایمان کی بنا پر ہی پیتا ہے کہ اس میں برکت اور شفا ہے تو اس طرح اس کا پیٹ بھر اور کوکھیں نکال کر پینا ایمان کی نشانی و دلیل ہے - اھ دیکھیں الشرح الممتع (7 / 377 - 379) -

شائد کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کو میٹھا اور آسانی سے پیا جانے والا اس لیے بنایا تا کہ اسے پیتے وقت عبادت کا معنی یاد رہے اور اسے بھولا نہ جائے ، بہر حال اس کا ذائقہ اچھا اور مقبول عام ہے -

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں وہ ہمیں حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس دن پانی پینا نصیب فرمائے جس دن بہت زیادہ تشنگی ہوگی اور پانی نہیں ملے گا ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائے - آمین یا رب العالمین -



والله اعلم .